

دوا حاصل كرنا

Å skaffe medisinar

 Espen Stranger-Johannessen

 Sara Rumen Krotev

 Yasir Tayyab

 2

 اردو ur / nynorsk nn

ڈم کو دانت ۛ درد ہے۔ اس کے دانت میں بہت تکلیف ہے۔

...

Tom har tannpine. Han har veldig vondt i ei tann.

اسے اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا ہے، لیکن پہلے اسے درد کے
لیے کسی دوا کی ضرورت ہے۔

...

Han må gå til tannlegen, men først treng han
noko for å dempe smertene.

وہ گڑی پر قریب ترین فرمیسی میں جا ہے۔

...

Han k yrer til n raste apotek.

“مجھے دانت میں درد ہے،” وہ کہتا ہے۔ “کیا آپ کے پاس اس کے
لیے کوئی دوا ہے؟”

...

«Eg har tannpine», seier han. «Har du noko
for det?»

“جی ہں، یہ درد ختم کرنے والی کچھ ادویت ہیں۔ ان کے لیے آپ
کو کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔”

...

«Ja, her er nokre smertestillande tablettar. Du
treng ikkje resept for desse.»

”آپ کا شکریہ۔ ان کی قیمت کچھ ہے؟“

...

«Tusen takk. Kor mykje kostar dei?»

“ان کی قیمت نو یورو ہے۔ لیکن آپ کو دانتوں کے ڈاکٹر سے ملا
چہیے۔”

...

«Dei kostar ni euro. Men du bør gå til
tannlegen.»

“ٹھیک ہے، میں کل صبح اپنے دانتوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کروں
گ۔”

...

«OK, eg skal ringe tannlegen i morgon tidleg.»

“اگر آپ کو بہتر دوا کی ضرورت ہے، تو آپ کو اپنے دانتوں کے
ڈاکٹر سے نسخہ لینے کی ضرورت ہوگی۔”

...

«Viss du treng sterkare medisin, må du ha ein
resept frå tannlegen eller legen din.»

«آپ ګ شکرېه! خدا حفظ.»

...

«Tusen takk! Ha det.»



LIDA Stories

lidastories.net

دوا حاصل کرنا

Å skaffe medisinar

 Espen Stranger-Johannessen

 Sara Rumen Krotev

 Yasir Tayyab (ur), Espen Stranger-Johannessen (nn)

